



سوال

(87) اذان کے بعد درود پڑھنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اذان کے الفاظ: "أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے یا نہیں؟ کیا اذان کے بعد بھیجا جانے والا درود ان الفاظ کو سننے پر کفایت کرے گا یا نہیں؟ انھوں نے فی الدین۔ (الوقتادہ بستی بلوچاں فروکہ ضلع سرگودھا)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اذان کے بعد درود پڑھنا چاہیے۔ اذان کے دوران میں درود پڑھنا میرے علم کے مطابق ثابت نہیں ہے۔ بلکہ صحیح مسلم (385) کی مرفوع حدیث اور صحیح بخاری (612) میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ "أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" کے جواب میں یہی کلمات دوہرائے جائیں اور بعد میں درود پڑھا جائے لہذا بہتر یہی ہے کہ اذان ختم ہوتے ہی درود پڑھیں۔ واللہ اعلم (16/رمضان 1426ھ) (الحدیث: 20)

هذا ما عندي واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ علمیہ

جلد 1۔ کتاب الاذان۔ صفحہ 250

محدث فتویٰ